

## ویکن میں علاقائی اقدامات میں تبدیلیاں

ویکن کے ضلع میں انفیکشن کا رجحان نیچے کی طرف ہے ، لیکن کچھ بلدیات میں اب بھی انفیکشن کی سطح بہت زیادہ ہے۔ محکمہ برائے صحت ، ادارہ برائے صحت عامہ اور ریاستی منتظم کی سفارش کے بعد ، حکومت نے ویکن کی چھ بلدیات کے اقدامات کی سطح میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ جن بلدیات کے پاس ابھی بھی علاقائی اقدامات ہوں گے وہ اتوار 16 مئی تک اسکیم میں رہے گیں۔ ایک ہفتہ کے بعد نیا جائزہ لیا جائے گا۔

لیپلے سٹروم ، لورنسکوگ اور ریلینگن کو جمعرات 6 مئی سے حفاظتی اقدامات کی سطح A سے B میں منتقل کیا جائے گا ، بشرطیکہ وہ مزید مقامی اقدامات متعارف کروائیں جو ایک دوسرے اور اوسلو بلدیہ کے ساتھ مربوط ہوں۔ انساکر بلدیہ کو پیر 3 مئی سے اقدامات کی سطح A سے B پر کر دیا جائے گا۔ آندسول اور نانے ستاد بلدیات کو 3 مئی بروز پیر سے علاقائی اقدامات کی اسکیم سے ہٹا دیا جائے گا۔

- وزیر برائے صحت و نگہداشت اور خدمات بینٹ ہوئی کا کہنا تھا، سخت اقدامات ویکن میں انفیکشن میں مسلسل کمی کا باعث ہیں۔ اگرچہ مشرقی اوسلو سے متصل بلدیات میں انفیکشن کی شرح اب بھی زیادہ ہے ، انفیکشن میں کمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ 16 مارچ سے روے ریکے کی چار بلدیات جن میں اقدامات کی سطح A تھی وہاں پر اقدامات کی سطح B کی جاسکتی ہے۔ یہ اس شرط پر ہو گا کہ لیپلے سٹروم ، لورین سکوک اور ریلینگن بلدیات اوسلو کے ساتھ ہم آہنگ ہوں ، اور علاقائی اقدامات کے علاوہ مضبوط اور مربوط اقدامات متعارف کروائیں۔

محکمہ برائے صحت ، ادارہ برائے صحت عامہ ، اوسلو اور ویکن کے ریاستی منتظم اور متاثرہ بلدیات نے اس معاملے پر قریبی بات چیت کی ہے۔ زیادہ تر بلدیات سفارش کی تائید کرتی ہیں۔

کچھ بلدیات میں ابھی بھی اقدامات کی سطح B کے علاوہ سخت اقدامات ہونے چاہئیں

مندرجہ ذیل بلدیات کو جمعرات 6 مئی کی نصف شب سے اقدامات کی سطح A سے B پر منتقل کیا جائے گا:

- لیپلے سٹروم
- لورین سکوک
- ریلینگن

ان بلدیات کے لئے یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ بلدیات ایک دوسرے کے ساتھ اور شہر اوسلو کے ساتھ باہم مربوط ہوں تاکہ مقامی نقل و حرکت اور رابطے کو کم کرنے کے مناسب اقدامات متعارف کرائے جاسکیں۔ یہ علاقائی اقدامات میں اضافے کے علاوہ ہے ، اور یہ مقامی اور علاقائی انفیکشن کی صورتحال پر مبنی ہونا چاہئے۔ ان تینوں بلدیات کے لئے ، ادارہ برائے صحت عامہ مندرجہ ذیل مقامی اقدامات کی سفارش کرتی ہے جن کا اوسلو کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہونا ضروری ہے:

- شاپنگ سینٹرز کا بند ہونا ، خریداری مراکز میں آنے والے خریداروں کے لئے سخت نگرانی اور تعداد کی حد کے ساتھ خریداری مراکز میں متبادل طور پر ریسٹوراں کی بندش۔
- اندرون خانہ طعام پر پابندی ہے ، لیکن بیرون خانہ دیگر کھانے پینے کے لئے جگہیں کھلی ہیں۔
- اقدامات کی سطح B میں منعقدہ پروگراموں کی تعداد میں حد (50 افراد تک جنازے ، 10 افراد تک مذہبی اور فلسفیانہ اجتماعات)۔
- مندرجہ ذیل بلدیات میں اقدامات کی سطح A سے B میں آدھی رات اور پیر 3 مئی تک منتقل کی جائے گی۔
- النسا کر

درج ذیل بلدیات کو اقدامات کی سطح B کے ساتھ جاری رکھا جائے گا:

- آسکر
- بیرم
- دامن
- ایسنے بک
- فریدکستاد
- فروگن
- بالدن
- اندرے اوستفولد
- لیبیر
- موس
- نوردرے فولو
- رودے
- سارس برگ
- ویست بی

• اوس

تبدیلیوں کا اطلاق 16 مئی 2021 سے لے کر دو ہفتوں تک رہے گا ، لیکن ایک ہفتے کے بعد اقدامات کی سطح کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔

آندسول اور نانے ستاد کی بلدیات، جو فی الحال اقدامات کی سطح B کے قاعدہ کے مطابق ہیں، 3 مئی 2021 کی نصف شب سے علاقائی اقدامات کی اسکیم سے باہر کر دی جائیں گی۔

یہاں آپ کو ایک جائزہ ملے گا کہ مختلف سطحوں پر کون سے اقدامات لاگو ہوتے ہیں۔